



PAKISTAN CRICKET BOARD  
MEDIA RELEASE



## پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان آئندہ سال سیریز کا شیڈول جاری کر دیا گیا

- دورے کے دوران 3 ٹیسٹ اور 3 ٹی ٹونٹی میچز کھیلے جائیں گے
- یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان پہلا مقابلہ ہوگا، ذاکرخان

لاہور، 21 اگست 2019ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ کی جانب سے آئندہ سال پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز کا شیڈول بدھ کے روز جاری کیا گیا۔ قومی کرکٹ ٹیم 30 جولائی سے 2 ستمبر 2020 تک جاری رہنے والے 5 ہفتوں پر مشتمل دورے کے دوران 3 ٹیسٹ اور 3 ٹی ٹونٹی میچز کھیلے گی۔

دورے میں شامل ٹیسٹ سیریز ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہوگی۔ قبل ازین قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم کی سری لنکا، آسٹریلیا اور بنگلہ دیش کے خلاف سیریز بھی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کا حصہ ہیں۔

سیریز میں شامل 3 ٹی ٹونٹی میچز قومی کرکٹ ٹیم کے لیے اکتوبر میں آسٹریلیا میں شیڈول آئی سی سی ٹی ٹونٹی ورلڈکپ کی تیاریوں میں معاون ثابت ہوں گے۔

پاکستان انگلینڈ کے خلاف سیریز کا آغاز لارڈز کے تاریخی گراونڈ میں ٹیسٹ میچ سے کرے گا۔ لارڈز میں پاکستان کو گذشتہ 2 مقابلوں میں میزبان ٹیم پر سبقت حاصل ہے۔ اس میدان میں قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم انگلینڈ کو سال 2016 میں 75 رنز اور سال 2018 میں 9 وکٹوں سے شکست دے چکی ہے۔

سیریز کا دوسرا میچ مانچسٹر کے اولڈ ٹریفورڈ کرکٹ گراونڈ میں کھیلا جائے گا جہاں پاکستان کو سال 2006 اور 2016 میں میزبان ٹیم سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کی ٹیموں کے درمیان آخری ٹیسٹ میچ نوٹنگھم کے ٹرینٹ برج کرکٹ گراونڈ میں کھیلا جائے گا جہاں قومی ٹیسٹ کرکٹ ٹیم سال 2010 سے اب تک

4 دوروں کے باوجود فتح سمیٹے میں ناکام رہی ہے۔

سال 2016 سے اب تک قومی کرکٹ ٹیم نے ہر سال انگلینڈ کا دورہ کیا جس میں سال 2017 میں پاکستان کی آئی سی سی چیمپئنزر ٹرافی میں فتح اور سال 2018 میں انگلینڈ کے خلاف 1-1 سے ٹیسٹ سیریز برابر کرنا نمایاں ہے۔

آنندہ دورہ انگلینڈ قومی کرکٹ ٹیم کا ایک دبائی میں چوتھا اور اس صدی میں چھٹا ٹورہوگا۔

انگلینڈ کرکٹ ٹیم کو سال 2022 میں پاکستان کا جوابی دورہ کرنا ہے۔ پاکستان کو سیریز میں شامل 3 ایک روزہ میچز کی میزبانی اکتوبر اور نومبر ٹیسٹ چیمپئن شپ میں شامل 3 ٹیسٹ میچوں کی میزبانی دسمبر میں کرنی ہے۔

**ذاکر خان، ڈائیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی:**

اس موقع پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ ذاکر خان کا ہنا ہے کہ دورہ انگلینڈ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں قومی کرکٹ ٹیم کی انگلینڈ کے خلاف پہلی سیریز ہوگی۔

ڈائیریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ پی سی بی نے کہا کہ دورہ انگلینڈ مہمان ٹیم کے کھلاڑیوں کی قابلیت اور مہارت کا کڑا امتحان ہوتا ہے۔ امید ہے سیریز سے قومی کھلاڑیوں کو ٹیسٹ فارمیٹ میں بہتری اور آسٹریلیا میں شیڈول آئی سی ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تیاری میں مدد ملے گی۔

ذاکر خان نے کہا کہ گذشتہ 4 سالوں میں تیسرا دو طرفہ سیریز کا انعقاد پاکستان کرکٹ بورڈ اور انگلینڈ اینڈ ولز کرکٹ بورڈ کے درمیان دوستانہ تعلقات کی عکاسی کرتا ہے۔ علاوہ ازیں پاکستان آسٹریلیا کے خلاف 2 ٹیسٹ میچوں پر مشتمل سیریز کی میزبانی بھی انگلینڈ میں کرچکا ہے۔

**شیڈول:**

پہلا ٹیسٹ: 30 جولائی تا 3 اگست 2020 ، مقام لارڈز، لندن

دوسرा ٹیسٹ: 7 تا 11 اگست 2020 ، مقام اولڈ ٹریفورد، مانچسٹر

تیسرا ٹیسٹ: 20 تا 24 اگست 2020 ، مقام ٹرینٹ برج، نائلنگہم

پہلا ٹی ٹونٹی: 29 اگست 2020، مقام ہیڈنگلے، لیدز

دوسرائی ٹونٹی: 31 اگست 2020، مقام صوفیا گارڈنز، کارڈن  
تیسرا ٹی ٹونٹی: 2 ستمبر 2020، مقام ایجڑ باول، ساؤتھ ہمپٹن

- ENDS -

Media contact:

**Ibrahim Badees Muhammad**  
Editor – Urdu Content  
Media and Communications  
E: [ibrahim.badees@pcb.com.pk](mailto:ibrahim.badees@pcb.com.pk)  
M: +92 (0) 345 474 3486  
W: [www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)

#### **ABOUT THE PCB**

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

#### **Commercial Partners**



[www.pcb.com.pk](http://www.pcb.com.pk)   
[@therealpcb](https://twitter.com/therealpcb)   
[@PakistanCricketBoard](https://twitter.com/PakistanCricketBoard)   
[@PakistanCricketOfficial](https://twitter.com/PakistanCricketOfficial)   
[@therealpcb](https://twitter.com/therealpcb)

**PCB Headquarters**  
Gaddafi Stadium  
Ferozepur Road, Lahore  
Pakistan, PO Box 54000  
T: +92 42 3571 7231-4